

کتنا بڑا؟ کتنا بھاری

14



ساری کاشیا جمع کرتی ہے جیسے سنگ مرمر، سکے، ربو وغیرہ۔ وہ ایک گلاس میں کچھ پانی لیتی ہے اور پانی کی سطح پر 'O' کا نشان لگادیتی ہے۔




اگر میں اس گلاس میں 5 سنگ مرمر کے ٹکڑے ڈالتی ہوں تو آپ اندازہ لگایے کہ پانی کی سطح کیا ہو گی؟

وہ گلاس میں 5 سنگ مرمر کے ٹکڑے ڈلتی ہے۔ اور پانی کی نئی سطح پر پھر نشان لگاتی ہے۔

میں نے صرف اندازہ لگایا کہ سنگ مرمر کے ٹکڑوں سے پانی کتنا اور اٹھا جائے گا۔ آپ کس طرح جنم حاصل کریں گی؟

اے! آپ نے کیسے اندازہ لگایا! کیا آپ سنگ مرمر کے ٹکڑے کا جنم جانتے ہیں؟



دیکھیے ہر ایک سنگ مرمر کا ٹکڑا پانی کی سطح کو کچھ اوپر اٹھاتا ہے۔ کیوں کہ یہ کچھ جگہ لیتا ہے یہی اس کا جنم ہے۔



بچوں کو ٹھوں اشیا کے جنم کا موازنہ اندازے سے اور غیر رسی پیاس کی نیاد پر کرنے کے لیے زیادہ مشق کی ضرورت ہے۔ رسی پیاس کے طریقوں (جیسے لیٹر اور مکعب سینٹی میٹر وغیرہ) سے پہلے انھیں سنگ مرمر کے ٹکڑے، سکے، ماچس وغیرہ کا استعمال کر کے جنم کی فہم پیدا کرنے کی ترغیب دیں۔

کس کا جنم زیادہ ہے؟

ہاں، اگر ہم ایک پیائش
کرنے والی بوتل
بنالیں تو یہ ممکن ہے۔

کیا آپ مجھے 6 سنگ مرمر
کے ٹکڑوں کا جنم ملی لیٹر میں
بتاسکتے ہیں؟

چوتھی جماعت میں آپ نے 250 ملی لیٹر کی پیائش کرنے والی ایک بوتل بنائی تھی۔

کیا آپ ایسی ایک پیائشی بوتل بنانے کے طریقوں کے بارے میں سوچ سکتے ہیں جو 10 ملی لیٹر، 20 ملی لیٹر، 30 ملی لیٹر اور 60 ملی لیٹر کو ناپ سکے؟ اپنے دوستوں کے ساتھ بات چیت کیجیے۔

طارق اور مولی نے اپنی اپنی پیائشی بوتل بنائی۔

طارق کے پاس ایک نجکشن تھا۔ اس نے پیائشی والی بوتل بنانے کے لیے اس کا استعمال کیا۔ مولی نے ایک خالی دوائی کی بوتل کا استعمال کیا۔

میں نے نجکشن میں ایک بار میں 5
ملی لیٹر پانی بھرا۔ اپنی بوتل پر 10
ملی لیٹر کا نشان لگانے کے لیے میں
نے اسے دو مرتبہ بھرا۔

میں نے پیائشی بوتل بنانے کے
لیے اس بوتل کا استعمال کیا جاؤ
10 ملی لیٹر ناپتی ہے۔


مولی نے اپنی پیائشی بوتل کا استعمال پانچ روپیے کے سکوں کا جنم معلوم کرنے کے لیے کیا۔ اس نے دیکھا کہ 9 پانچ روپیے کے سکے پانی کی سطح کو 10 ملی لیٹر بڑھادیتے ہیں۔ آپ بھی پانچ روپیوں کے 9 سکوں کا استعمال اپنی پیائشی بوتل بنانے کے لیے کر سکتے ہیں! اسے کر کے دیکھیے!

اپنی پیائشی بوتل کا استعمال کیجیے:

(a) سنگ مرمر کے 6 ٹکڑوں کا جنم کیا ہے؟ _____ ملی لیٹر

آپ کا پیائشی گلاس

اب آپ اندازہ لگائیے۔ کیا آپ سوچتے ہیں کہ پانچ روپیوں کے 10 سکوں کا جم 10 سنگ مرمر کے ٹکڑوں سے زیادہ ہوگا؟



ان میں سے ہر ایک کے جم کا اندازہ لگائیے:

- ◆ ایک گینڈ تقریباً _____ سنگ مرمر کے ٹکڑوں کے برابر ہے۔
- ◆ ایک رہ تقریباً _____ سنگ مرمر کے ٹکڑوں کے برابر ہے۔
- ◆ ایک پنسل تقریباً _____ سنگ مرمر کے ٹکڑوں کے برابر ہے۔
- ◆ ایک آلو تقریباً _____ سنگ مرمر کے ٹکڑوں کے برابر ہے۔

اب آپ 35 سنگ مرمر کے ٹکڑوں کا استعمال کر کے اپنا پیائشی گلاس بنائیے۔

ایک گلاس پانی لبھیے اور پانی کی سطح پر 'O' کا نشان لگائیے۔ پھر اس میں 5 سنگ مرمر کے ٹکڑے ڈالیے اور پانی کی سطح پر M 5 کا نشان لگائیے۔

اس میں 5 سنگ مرمر کے ٹکڑے اور ڈالیے اور پانی کی سطح پر M 10 کا نشان لگائیے۔ اسی طرح M 15, 20 M, 25 M, 30 M اور M 35 کا نشان لگائیے۔

اب تمام اشیا جیسے ایک ماچس کی ڈبیا، ایک پھر وغیرہ کو اپنے بنائے ہوئے پیائشی گلاس میں رکھیے اور اپنے اندازے کی جانچ کیجیے، پھر جدول کو بھریے۔

اس کا جم (تقریباً کتنے سنگ مرمر کے ٹکڑے؟)	اشیا کا نام




بچے گلاس پر ایک کافندکی ٹپی چپکا سکتے ہیں اور پانی کی سطح ناپنے کے لیے بین یا پنسل سے نشان گا سکتے ہیں۔ ان سرگرمیوں کا مقصد بچوں کو جم کی تعریف رو انہیں ہے بلکہ آسان مثالوں کے ذریعے اور خود کر کے جم کے تصور کی سمجھ کی پیدا کرنا ہے۔

ارے! میری ریاضی کا جادو کتاب تقریباً سینٹی میٹر لمبی ہے۔ اس لیے اس کی لمبائی میں سینٹی میٹر مکعب آجائیں گے۔

کل ملا کر سینٹی میٹر مکعب ریاضی کی کتاب پر آجائیں گے۔




* اب اگر ان تمام مکعبوں کو ایک خط میں رکھا جائے تو وہ خط کتنا لمبا ہو گا؟ — سینٹی میٹر



مشق کا وقفہ

1. ریاضی کا جادو کی 5 کتابوں کا ایک پلیٹ فارم بنایا گیا۔ اس پلیٹ فارم کا جم سینٹی میٹر مکعب کے برابر ہے۔



2. ان اشیاء کے جم کا سینٹی میٹر مکعب میں کتنا ہو گا؟ اندازہ کیجیے۔


* ایک ماچس کا جم تقریباً مکعب سینٹی میٹر ہے۔

* ایک جیو میٹری باکس کا جم تقریباً مکعب سینٹی میٹر ہے۔

* ایک ربرا کا جم تقریباً مکعب سینٹی میٹر ہے۔

آپ اندازے کی کس طرح جانچ کریں گے؟ بات چیت کیجیے۔

ماچس کی ڈبیوں کا کھیل



تونا ماچس کی ڈبیوں سے ایک اسٹچ بنارہی ہے۔

پہلے وہ 14 ماچس کی ڈبیاں اس طرح رکھ کر پہلی تہہ تیار کرتی ہے۔

سرگرمی "کتنی چیزیں آئیں گی" کے بچوں کو ایک مکعب سینٹی میٹر کی شکل کی سمجھونی چاہیے۔ مختلف شکلوں کے جم کو معلوم کرنے کے لیے استاد کچھ مکعب سینٹی میٹر بناسکتا ہے اور ماچس کی ڈبیوں کا استعمال کر کے کچھ ماذل بنو سکتا ہے۔ تونا پلیٹ فارم یا موہن کا ماذل ایسی کچھ مثالیں ہیں جہاں بچے جم کو ماچس کی ڈبیوں سے ناپتے ہیں اور جسے بعد میں مکعب سینٹی میٹر میں بدلا جاسکتا ہے۔

(b) ایک روپے کے 16 سکوں کا جنم کیا ہوگا؟ _____ ملی لیٹر۔

اب انھیں خود حل کیجیے۔

(c) 24 سنگ مرمر کے ٹکڑوں کا جنم _____ ملی لیٹر ہوگا۔

(d) ایک روپے کے 32 سکوں کا جنم _____ ملی لیٹر ہوگا۔

(e) مولی نے پانچ روپے کے کچھ سکے پیمائش کرنے والی بوتل میں ڈالے۔ اس نے کتنے سکے اس میں ڈالے ہوں گے:
* اگر پانی کی سطح 30 ملی لیٹر اور پراٹھتی ہے؟
* اگر پانی کی سطح 60 ملی لیٹر اور پراٹھتی ہے؟


پہلے اندازہ لگائیے پھر اپنی پیمائشی بوتل کا استعمال کر کے کچھ دوسری اشیا کا جنم ملی لیٹر میں معلوم کیجیے۔

اندازہ لگائیے کہ پانی کے اندر جانے پر
آپ کا جسم کتنے لیٹر پانی کو ہٹائے گا؟



اشیا	جم (ملی لیٹر میں)

اس میں کتنے آسکتے ہیں؟



یہ ایک مکعب (Cube) ہے جس کا ہر ضلع 1 سینٹی میٹر ہے۔
ویکھیے، آپ کی کتاب ریاضی کا جادو 1 سینٹی میٹر اونچی ہے۔
تو اندازہ لگائیے 1 سینٹی میٹر کے کتنے مکعب آپ کی ریاضی کی کتاب کے برابر
جگہ گھیریں گے؟



ایک پیمائشی بوتل بنانے کے لیے بچوں کو پوزے منہ والی اور شفاف بوتل کا استعمال کرنے کے لیے کہیں تاکہ آسانی سے نشانات لگائے جائیں۔ اس سرگرمی کا مقصد ہے بچوں میں ناپنے کی صلاحیت پیدا کرنا، تجرباتی آلات بنانا اور ان کا استعمال کرنا وغیرہ۔

مشق کا وقفہ

موہن نے اپنی ماچس کی ڈبیوں کو اس طرح ترتیب دیا۔

* اس نے اسے بنانے کے لیے کتنی ماچس کی ڈبیوں کا استعمال کیا؟ اس کا جم

ماچس کی ڈبیوں میں کتنا؟ _____ ماچس کی ڈبیاں۔

* خالی ماچس کی ڈبیاں اکٹھا کیجیے۔ انہیں ایک دلچسپ طریقے سے ترتیب

دیجیے۔ اس کی ایک گہری ڈرائیںگ بنائیے۔




ایک کاغذ کا مکعب بنانا


آنن اور اس کے دوست کا غذ کا ایک مکعب بنارہے ہیں۔ انہوں نے 19.5 سینٹی میٹر ضلعے والے مربعے کی کاغذ کی ایک شیٹ کو کاٹا۔ انہوں نے اسی طرح کے ایک جیسے 6 مربعے کا غذ کاٹا، ان تصویروں کو دیتے ہیے اور اپنا کاغذ کا مکعب بنائیے۔



2. اوپر کے دائیں کونے کو اور اس کے مخالف کونے کو اس طرح موڑیے۔




1. اس طرح کے خطوط بنانے کے لیے کاغذ کو چار برابر حصوں میں موڑیے۔




4. تاکہ کاغذ اس طرح دکھائی دے۔



3. اوپر اور نیچے کے کناروں کو موڑ کر درمیانی خط سے ملائیے۔ اب P کونے کو موڑیئے.....




6. P کونے کو اٹھایئے اور اسے اس طرح مڑے ہوئے کاغذ کے نیچہ دادیجیے۔



5. اسی طرح Q کونے کو بھی موڑیے۔ کاغذ اس طرح دکھائی دے گا۔

یکساں جنم کی مختلف شکلیں بنانے کے لیے بچوں کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ مثال کے طور پر تماٹی اکائیوں کا استعمال کر کے الگ الگ شکلیں بنائیں جیسے اینٹیں یا ماچس کی ڈبیاں وغیرہ۔ پلیٹ فارم کے ملبووں کا حساب لگانے کے لیے مبائی کو قریبی سینٹی میٹر تک ناپیے۔



وہ اس طرح کی 4 تھیں بناتی ہے اور اس کا پلیٹ فارم کچھ اس طرح دکھائی پڑتا ہے۔



* اس نے پلیٹ فارم کو بنانے کے لیے ماچس کی ڈبیوں کا استعمال کیا؟


* ایک ماچس کے ڈبے کا جنم 10 سینٹی میٹر مکعب کے برابر ہے۔ تو اس سطح کا جنم سینٹی میٹر مکعب کے برابر ہے؟

* اگر ان تمام مکعبوں کو ایک ہی خط میں رکھا جائے تو وہ خط کتنا لمبا ہو گا؟ سینٹی میٹر۔

* کس کا جنم زیادہ ہے آپ کی کتاب ریاضی کا جادو کا یاتنو کے پلیٹ فارم کا؟ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ہی سائز کی بہت ساری ماچس کی ڈبیاں الٹھا کیجیے۔ ضلعوں کی پیمائش کیجیے اور یہاں لکھیے۔

میری ماچس کی ڈبی سینٹی میٹر چوڑی ہے۔

یہ سینٹی میٹر لمبی ہے۔ سینٹی میٹر اوپر نصیب ہے۔



* 56 ماچس کی ڈبیوں کا استعمال کر کے مختلف انچائیوں کے پلیٹ فارم تیار کیجیے اور جدول کو بھریئے۔

یہ کتنا چوڑا ہے؟	یہ کتنا لمبا ہے؟	یہ کتنا اوپر چاہے؟	
			پلیٹ فارم 1
			پلیٹ فارم 2
			پلیٹ فارم 3

ہر پلیٹ فارم کا جنم ماچس کی ڈبیوں کے برابر ہے۔

* جو پلیٹ فارم آپ نے بنائے ہیں ان کی گھری ڈرائیگ بنائیے۔